

28 اپریل، 2017

مکرمی اہل خانہ اور عملہ،

Elizabeth A. Rose
Deputy Chancellor
Division of Operations

52 Chambers Street
New York, NY 10007

Tel 212 374 7868
Fax 212 374 5588

طلبا اور علمے کا تحفظ اور ان کی بہبود ہماری اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ محکمہ تعلیم (DOE) نے شہر کے ہر پبلک اسکول میں پانی کی جانچ مکمل کر لی ہے۔ نیویارک شہر کا پانی محفوظ ہے اور خاندان اور عملے کو یقین ہونا چاہیئے کہ ہمارا پینے کا پانی دنیا میں اعلیٰ ترین معیار کا ہے۔

شہر اپنے واٹر شیڈ کی نگرانی کرتا ہے جو ہمارے ذخیرہ آب کے اردگرد ہے اور اسکی حفاظت کرتا ہے، اور پورے نظام میں مختلف مواقع پر ہر سال پانی کی جانچ 500,000 مرتبہ کی جاتی ہے۔ ان شدید اقدامات کے علاوہ، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہمارے طلبا کو اسکولوں میں پینے کے لیے محفوظ پانی تک رسائی حاصل ہے، DOE شہر کی ایجنسیوں کے ساتھ کام کرتا ہے، بشمول محکمہ صحت اور ذہنی حفظان صحت اور محکمہ برائے ماحولیاتی تحفظ کے۔ نیویارک شہر کے اسکولوں میں پینے کے پانی کی وجہ سے سیسے کے زہریلے پن کا کوئی پُروٹوق کیس نہیں ہوا ہے۔

کسی بھی عمارت میں جہاں سیسے کی جانچ کے نتائج میں صرف ایک پانی کے نکاس میں 15 حصے فی بلین سے اونچی ایکشن سطح تھی، ہم نے اپنے معیاری ردعمل طریق کار نافذ کیے تھے۔ اس میں شامل تھا زیادہ سطح والے پینے اور کھانا پکانے کے پانی کے نکاس کو بند کرنا، پورے نظام یا ایک جز کو فلش کرنا تاکہ پائپوں میں رات بھر کے ٹھہرے ہوئے پانی کو نکالا جاسکے، آلات کو تبدیل کرنا اور پینے اور کھانا پکانے کے پانی کے نکاس کو بند رکھنا جب تک کہ دوبارہ جانچ کے نتائج نے یہ نہیں دکھایا کہ نکاس میں اب سیسے کی اونچی سطح نہیں ہے۔


ریاستی معیارات کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے پورے نظام کے تنصیبات میں سے 92% نے رہنمائی سطح سے نیچے نتائج دیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول کی عمارت میں پانی کے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے اور ہمارا انسدادی طریق کار موثر ہے۔ ہمارے نتائج ریاست کے دیگر اسکول اضلاع کے ساتھ موافق موازنہ کرتے ہیں۔

پچھلے کئی مہینوں میں ہر اسکول کے نتائج کے بارے میں تفصیلی معلومات کے ساتھ ایک خط اسکولی برادریوں کے ساتھ بانٹا گیا تھا۔ ہر اسکول کا خط DOE کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، بمعہ مکمل لیبارٹری جانچ کے نتائج۔ آپکو جامع معلومات فراہم کرنا جو DOE ویب سائٹ پر باآسانی قابل رسائی ہو ہماری آپ کے ساتھ شراکت کی کلید ہے۔

ہر ایک اور تمام اسکولوں میں پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے ذریعے استعمال کیے جانے والے کڑے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے <http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/watersafety.htm> براہ کرم پر جائیں۔

ہم آپکے بچے اور شہر کے تمام بچوں کو ایک اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کرنے میں آپکی شراکت کے لیے آپکے شکرگزار ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو برائے مہربانی اپنے اسکول سے رابطہ کریں۔

آپ کی مخلص،



Elizabeth Rose